

آپ کی ہے آپ کا کوئی شریک نہیں۔

مسجد حرام میں طلاق پاٹل سے مغلبہ ہمیٹا تلبیکے پڑھیں۔

لَيْكَ الْأَحْقَقُ (۸) ترجمہ: میں حاضرِ اللہ کے مانعِ حجہ لایاں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ إِنَّمَا أَفْتَنْتَ لِي أَنْوَابَ رَحْمَتِكَ (۹) ترجمہ: اے اللہ درحات نازل فرمائجھیت پر۔ اے اللہ

میرے لئے رحمت کے دروازے کھول دے۔

طوف: مردانہ اداہنا کا ندھار کھلارہنے دیں۔ مجراسود کے سامنے

سے پہلے اس طرح سے کھڑے ہوں کہ عبید آپ کے سامنے

ہو، اور طوف کی نیت کریں:

اے اللہ میں آپ کی رضا کے لئے عمرہ کا طوف کرتا ہوں آپ اس کویرے

لئے آسان کرو دیجھ اور قبول کر جیجھ۔

اور کاملی پر قدرخیر کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ کا نوں تک اٹھا کر کیں

بسم اللہ اللہ اکبر و اللہ الحمد و السلاطہ و السلام علی رسول اللہ اور دونوں ہاتھ جھوپ کر طوف شروع کریں۔ ہر چار شروع کرنے سے

پہلی جرسود کی طرف دھنیتی ہیچکی کر کے اللہ اکبر کیں اس کو اسلام کیتے

ہیں۔ پہلی تین چکروں میں مردروں کریں، آہستہ آہستہ دوڑنے کو کوڑل

کہتے ہیں، ہر چکر میں (۲) رکن بیانی اور (۱) مجراسود کے درمیان یہ دعا

پڑھیں۔

رَبَّنَا آتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَفِي

عَذَابِ النَّارِ (۱۱) ترجمہ: اے ہمارے رب میں دنیا میں خوبی دے اور

آخرت میں خوبی (۱) اور میں دوڑنے کے عذاب سے بچا۔

طوف کے اختتام پر اپنا سیدھا کنہادھا نک لیں اور (۳) مقام ابراہیم کے

پاس جا کر یہ دعا پڑھیں۔

وَاتَّخَذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مَصَلَّى (۱۲)

ترجمہ: اور (کہہ دیا) کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کوئماز کی جگہ

بناو۔ اگر موقع ملے مقام ابراہیم کے پاس طوف کی درکوت نماز غافل

ادا کریں، ورنہ میں بھی حرم شریف میں ادا کریں، بکلی رکعت میں قفل یا

ایہا الکفرؤں۔ اور دوسری رکعت میں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

پڑھیں۔ پھر حرم کے نوئیں کے پاس جا کر پیٹ بھر کر زخم پیشیں۔ پس

جا کر حجراحت عالم اس سے جو اللہ اکبر کے پس

مکہ سکرہ میں داعیوں نے مغلبہ ہمیٹا تلبیکے پڑھیں۔

لَيْكَ الْأَجْبَرُ (۱۳) ترجمہ: میں حاضرِ اللہ اکبر کے سامنے مغلبہ ہوں۔

اللَّهُمَّ مَحَلِّي حَيْثُ شِئْتَ (۱۴) ترجمہ: اے اللہ میں حاضر ہوں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے میں حاضر

ہوں بالاشتمام تعریف اور تمام تعقیں آپ کیلئے ہے اور حکومت اور سلطنت

عَوْنَاقُ عَرْفٍ (۱۵) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۱۶) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۱۷) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۱۸) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۱۹) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۲۰) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۲۱) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۲۲) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۲۳) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۲۴) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۲۵) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۲۶) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۲۷) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۲۸) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۲۹) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۳۰) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۳۱) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۳۲) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۳۳) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۳۴) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۳۵) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۳۶) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۳۷) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۳۸) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۳۹) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۴۰) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۴۱) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۴۲) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۴۳) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۴۴) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۴۵) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۴۶) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۴۷) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۴۸) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۴۹) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۵۰) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۵۱) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۵۲) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۵۳) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۵۴) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۵۵) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۵۶) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۵۷) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۵۸) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۵۹) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۶۰) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۶۱) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۶۲) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۶۳) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۶۴) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۶۵) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۶۶) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۶۷) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۶۸) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۶۹) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۷۰) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۷۱) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۷۲) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۷۳) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۷۴) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۷۵) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۷۶) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۷۷) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۷۸) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۷۹) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۸۰) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۸۱) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۸۲) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۸۳) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۸۴) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۸۵) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۸۶) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۸۷) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۸۸) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۸۹) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۹۰) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۹۱) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۹۲) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۹۳) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۹۴) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۹۵) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۹۶) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۹۷) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۹۸) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۹۹) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۱۰۰) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۱۰۱) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۱۰۲) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۱۰۳) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۱۰۴) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۱۰۵) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۱۰۶) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۱۰۷) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۱۰۸) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (۱۰۹) ترجمہ: اے عرب اور طواف کی میانے میں مغلبہ ہوں۔

وَطَوَافُ عَرْفٍ (

لَبِيْكَ اللَّهُمَّ لَبِيْكَ، لَبِيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبِيْكَ
إِنَّ الْحَمْدَ وَالْعَمَّةُ لَكَ وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ
ترجمہ: اے اللہ میں حاضر ہوں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے میں حاضر
ہوں بلاشبہ تمام تعریف اور تمام تعظیت آپ کیلئے ہے اور حکومت اور سلطنت
آپ کی ہے آپ کا کوئی شرک نہیں۔

اس دن کی سب سے افضل تسبیح

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبد نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اسی
کے لئے بادشاہ ہے، اور اسی کے لئے تعریف ہے، وہ زندہ کرتا ہے
اور سوت دیتا ہے، اسی کے لئے تھام قاتم بھالا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر
ہے۔ پھر غروب آفتاب کے بعد تک دہاں ہاں کے لئے مغرب کی نماز
وہاں ادنیں کریں اور مزادگانی طرف چلیں۔

وقوف مزادغہ

مزادغہ پہنچنے پر ایک اذان اور دو اقامات کے ساتھ مغرب اور عشاء کی
نماز قصر پر چھیس۔ دنوں نمازوں کے درمیان کوئی نماز نہ پڑھیں
پھر عشاء کی فرض نماز کے بعد مغرب کی دوست اور عشاء کی سنت اور وتر
پر چھیس۔ رَبِّنَا آتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَفِي
عَذَابِ النَّارِ اس کا ترجمہ ایک تبریج پر (۶) دعا پر یکیں۔ پھر طوف کے ختم
پر (۳) مقام ابراہیم کے پاس جا کر دعا پر چھیس۔

۱۰ راذی الحجۃ

پھر اٹھ کر فخر کی نماز پڑھیں۔ اور قبلہ کی طرف منہ کر کے یہ پڑھتے
ہوئے اللہ کی اکابر ☆ اللہ سب سے بڑا ہے
بَسْنَىٰ لَكَ طَرْفٌ تَبِعَتْهُ بَوْهَىٰ جَلَّ لَكَ الْهَمَّ
لَبِيْكَ، لَبِيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبِيْكَ،
إِنَّ الْحَمْدَ وَالْعَمَّةُ لَكَ وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ

جرۃ القیمة

اس کا ترجمہ ایک تبریج پر (۷) دعا پر یکیں۔
اور اللہ کی بڑی کثرت سے یہ پڑھتے ہوئے بیان کرے۔ مزادغہ یعنی پہنچ کر
جرۃ المتعقبہ (براشیطان) یہ سات نکریاں الگ الگ ساریں۔ (جان کے خطروں
کے پیش نظر شام کویاں میں یہ نکریاں مارنا مناسب ہے۔) نکری مارتے
ہوئے یہ تسبیحات پڑھتے ہوئے جل لَبِيْكَ الْهَمَّ
اللهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ
کے بعد عدا کے لئے نہ ٹھہریں، یونہی قیام گاہ چلے آئیں۔ اس کے بعد قربانی
کریں۔

قربانی

قربانی کیلئے نکت خریدا ہی جائز ہے اگر نکت نہ لیا تو قربان گاہ کی طرف
چلیں۔ قربانی کرتے وقت یہ پڑھیں۔
بَسْنَىٰ اللَّهُ وَاللهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ أَنَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ اللَّهُمَّ تَقْبَلْ مِنِي
ترجمہ: اللہ کے سامنے شروع کرتا ہوں جو سب سے بڑا ہے
ترجمہ: اے اللہ کی اللہ تیرتے ہی طرف سے ہے اور تیرتے ہی کلیت ہے اے اللہ
تو مجھ سے اس کو قول کر قربانی ہو جانے کے بعد

۲۸ سر کے بال منڈ والیں

پھر آدمی لوگ پورے سر کے بال منڈ والیں یا نہیں تو کم کے کم پورے سر کے
بال ہر جگہ سے برادر برادر کاٹے۔ اور عورتیں سارے سر کے بال انگلی کے
ایک پوری لمسائی سے کچھ زیادہ کتریں۔ اب آپ کا احرام کل گیا اور تمام
پانی بندیاں ختم ہوئی۔
سوائے ہمیسری کے پھر مکد کی طرف طوف زیارت (طوف
الافاضہ) کے لئے چلے۔

اب طوف زیارت کریں اس کا وقت ۴۰ سے ۲۰ تک الحجہ کے آفتاب
غروب ہونے تک ہے دن میں یارت میں جب چاہیں کریں عموماً
اڑڑی الحجہ کو آسانی رہتی ہے (طوف زیارت کاطریقہ وہی ہے جو عمرہ
کے طوف کا ہے) اور طوف باضھروں ہی اس کے لئے احرام کی
ضرورت نہیں ہے۔

محمد حرام میں داہنے پاؤں سے داخل ہوں اور دعا پر چھیں۔
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ
ترجمہ: اللہ کے سامنے سے پہلے طوف کے لئے طوف دعاء کرتا ہوں آپ اس کو
کریں: اے اللہ میں آپ کی رضا کے لئے طوف دعاء کرتا ہوں آپ اس کو
میرے لئے آسان کر دیجئے اور قول کر لیجئے اور کالی پی پر قبلہ کھڑے
ہو کر دنوں ہاتھ کا نوں تک اٹھا کر کہیں بسم اللہ اللہ اکبر وَاللَّهُ
الْحَمْدُ وَالصَّلَوةُ وَالصَّلَوةُ وَالصَّلَوةُ وَالصَّلَوةُ وَالصَّلَوةُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُ اکبر وَاللَّهُ
رَسُولُ اللَّهِ اور دنوں ہاتھ کا نوں تک اٹھا کر کہیں بسم اللہ اللہ اکبر وَاللَّهُ
کر طوف شروع کریں، ہر چکر شروع کرنے سے پہلے جو اسکی طرف دھنی
ہتھی کر کے۔ اللہ اکبر کہیں اس کا حسلام کہتے ہیں۔ یہیں تین چکروں
میں مرد رمل کریں، آہستہ آہستہ دوڑنے کے لئے جو اسکی طرف دھنی
(۱) کرن یا نیا اور (۲) محمد اسکے درمیان یہ دعا پر چھیں۔
(۳) مقام ابراہیم کے پاس جا کر دعا پر چھیں۔

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى
اس کا ترجمہ ایک تبریج پر (۱۲) دعا پر یکیں۔ اگر موئی ملے تو مقام ابراہیم
کے پاس طوف کی دو رکعت نمازوں ادا کریں، ورنہ ایسیں بھی حرم شریف
میں ادا کریں، پہلی رکعت میں قل بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اور دوسرا
رکعت مُلْهُو اللَّهُ أَعْذُّ بِرَبِّي میں قل بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ کوئیں کہا جا کر
پیش ہو رزم بیٹھیں۔ واپس جا کر محمد اسکا حسلام کرتے ہوئے اللہ
اکبر کہے۔ سی صافے شروع کرے
إِنَّ الصَّفَّا وَالْمَرْوَةُ مِنْ شَعَابِ الرَّبِّ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ
اواعشر مرقلا جناح غلیہ ان یطوف بہمَا وَمَنْ تَطَوعَ خَيْرًا
فَإِنَّ اللَّهَ شَاهِرٌ عَلَيْهِمْ: اس کا ترجمہ ایک تبریج پر (۱۲) دعا پر یکیں۔
قد روان اور سب کچھ جانئے والے ہے۔

صفا اور مرودہ پر ہر وقت کعبی طرف منہ کر کے یہ دعا پر چھیں
اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ
لَا شرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يَعْصِي وَيُمْسِي وَ
هُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَهُ إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ
لَهُ، اتَّحَذِّرُ وَعَدَهُ وَنَصَرْ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَخْرَازَ وَحْدَهُ اس
کا ترجمہ ایک تبریج پر (۱۲) دعا پر یکیں۔ اس کوئین مرتبہ پڑھتا ہے اور صرف پہلے
اور دوسرا اس کا ترجمہ ایک تبریج پر (۵) دعا پر یکیں۔ اب آپ کا احرام حل گیا
اور دوسرا اس کا ترجمہ ایک تبریج پر (۱۲) دعا پر یکیں۔ اب آپ کے بعد
تکلف وقت بایاں پاؤں نکالیں اور یہ دعا پر چھیں۔ مجد سے
مُحَمَّدٌ وَسَلَّمَ، اللَّهُمَّ اسْأَلُكُ مِنْ فَضْلِكَ اس کا ترجمہ
ایک تبریج پر (۱۲) دعا پر یکیں۔

۱۱ اور ۱۲ راذی الحجۃ

۱۲۰

زوال کے بعد سے لکرات تک تیوں شیطانوں کوے نکریاں (کل ۲۱ نکریاں)
ایک دن میں مارنی ہے۔
ہر نکری مارتے وقت آنکھیں کھوئیں۔
انکری مارتے وقت آنکھیں کھوئیں۔
طوف نکر کے جرات آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف ہو گا۔ اگر کوئی پورے سر کے
شیطان (ہریلیں) کی طرف جائیں اس کوئی اسی طریقے سے نکریں۔
ہوشیاریں پھر اس طرح کعبی کی طرف منہ کر کے دعا کریں۔ اب دعا کے بعد تسری سے
شیطان (براشیطان) کوئی پڑھتے ہوئے نکریاں مارے۔ اب دعا کریں۔ اب دعا کے بعد تسری سے
آپ کو اختیار ہے کہ ۲۰ بیوی ذی الحجه کی رہی کے بعد سمن غروب کے پہلے جو چوڑیں
دے یا ۱۳ بیوی کی رہی کر کے میں چوڑیں۔

حج کے بعد جب کہ کمر مسے ڈن و پاپی کا رادہ ہو تو طوف دعاء واجب
ہے (اس طوف کا طریقہ عامل طوف کی طرح ہے)
محمد حرام میں داہنے پاؤں سے داخل ہوں اور یہ دعا پر چھیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

ترجمہ: اے اللہ میں یارت ناول فرمائی جسے پہلے
اے اللہ میں آپ کے سامنے سے پہلے طوف دعاء کرتا ہوں۔

اس طوف کے لئے رحمت کے دروازے کھوئے ہوں۔ طوف: محمد اسکے سامنے سے پہلے
اس طوف سے کھڑے ہوں کہ سامنے ہو، باہر طوف کی نیت
کریں: اے اللہ میں آپ کی رضا کے لئے طوف دعاء کرتا ہوں آپ اس کو
میرے لئے آسان کر دیجئے اور قول کر لیجئے اور کالی پی پر قبلہ کھڑے ہوں
ہو کر دنوں ہاتھ کا نوں تک اٹھا کر کہیں بسم اللہ اللہ اکبر وَاللَّهُ

الْحَمْدُ وَالصَّلَوةُ وَالصَّلَوةُ وَالصَّلَوةُ وَالصَّلَوةُ وَالصَّلَوةُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُ اکبر وَاللَّهُ

ترجمہ: اے اللہ میں دعاء کر دیجئے اور قول کر لیجئے اور دعا پر چھیں۔

۱۰۰۰ دعویت لکھدیں۔

حج کے شرمندی جانے سے پہلے

اسلام قرئے اسکے لئے اکریں اور دعا پر چھیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

ترجمہ: اے اللہ میں یارت ناول فرمائی جسے پہلے
اے اللہ میں آپ کے سامنے سے پہلے طوف دعاء کرتا ہوں۔

سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔

اسلام قرئے اسکے لئے اکریں اور دعا پر چھیں۔

فَضْلِكَ ترجمہ: اے اللہ میں یارت ناول فرمائی جسے پہلے
اے اللہ میں آپ کے سامنے سے پہلے طوف دعاء کرتا ہوں۔

۱۰۰۰ دعویت لکھدیں۔

ثواب دارین حاصل کرنے کیلئے زیادہ سے
زیادہ زیروں کرو اکر جاگ کرام میں تقیم کریں۔

مفہٹ کا پی کے لئے مندرجہ ذیل پتے پر اڑاٹ کریں۔

Address : The Islamic Bulletin,

PO Box 410186,
San Francisco, CA 94141-0186, USA.

Web : www.islamicbulletin.org

(Enter here:Haj/Urdu)

E-mail : info@islamicbulletin.org